

9477- فرشتوں پر ایمان کا مطلب

سوال

فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟

جواب کا خلاصہ

فرشتوں پر ایمان چار چیزوں پر مشتمل ہے: اس بات کا اقرار کہ فرشتے موجود ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی پروردہ تاج فرمان مخلوق ہیں۔ جن فرشتوں کے نام شریعت نے بتلائے ان کے ناموں پر ایمان رکھنا۔ جن فرشتوں کی صفات شریعت نے ہمیں بتلائی ان کی صفات پر ایمان لانا۔ اور جن فرشتوں کی ذمہ داریاں شریعت نے بتلائی ان پر ایمان رکھنا۔

پسندیدہ جواب

فرشتوں کا تعلق غیبی جہان سے ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں نور سے پیدا کیا ہے، یہ اللہ کے احکامات کی بجا آوری کرتے ہیں؛ کیونکہ **﴿لَا يَفْضُونَ إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ وَأَنْزَلَ مِنْ سَمَاءٍ مَاءً مَبْرُورًا﴾**۔ ترجمہ: اللہ انہیں جو بھی حکم دیتا ہے فرشتے اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور انہیں جو کچھ بھی حکم دیا جاتا ہے وہ اسے کر گزرتے ہیں۔ [التحریم: 6]

فرشتوں پر ایمان میں چار چیزیں ہونا ضروری ہے:

- اس بات کا اقرار کہ فرشتے موجود ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی پروردہ تاج فرمان مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں انہیں معزز مقام حاصل ہے، ان کی خوبی یہ ہے کہ **﴿عِبَادٌ مُتَّعِظُونَ﴾** (26) **لَا يَفْضُونَ إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ وَأَنْزَلَ مِنْ سَمَاءٍ مَاءً مَبْرُورًا﴾**۔ ترجمہ: وہ معزز ترین بندے ہیں [26] اور وہ اللہ کے ہاں زبان درازی نہیں کرتے، اور وہ اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ [الانبیاء: 26-27]
- جن فرشتوں کے نام شریعت نے بتلائے ان کے ناموں پر ایمان رکھنا، مثلاً: جبریل، میکائیل، اسرافیل، مالک اور رضوان وغیرہ علیہم السلام۔
- جن فرشتوں کی صفات شریعت نے ہمیں بتلائی ان پر ایمان لانا، مثلاً: ہمیں احادیث نے بتلایا کہ سیدنا جبریل علیہ السلام کے 600 پر ہیں، اور ان کی جسامت اتنی بڑی ہے کہ وہ پورے افق میں چھائے ہوئے تھے۔
- جن فرشتوں کی ذمہ داریاں شریعت نے بتلائی ان پر ایمان رکھنا، مثلاً: جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری وحی کی ہے، اسرافیل علیہ السلام کی ذمہ داری صور میں پھونکنے کی ہے، میکائیل علیہ السلام کی ذمہ داری بارش نازل کرنے کی ہے، جبکہ مالک علیہ السلام کی ڈیوٹی جہنم پر ہے۔

یہاں اس بات پر ایمان رکھنا بھی لازم اور اہمیت کا حامل ہے کہ ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دو فرشتے مقرر ہیں جو اس کے اعمال لکھتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا: **﴿إِذْ تَلَقَىٰ السُّعْيَانَ عَنِ النَّبِيِّ وَعَنِ الشَّمَالِ قَعِيدًا * مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ﴾**۔ ترجمہ: جب (بندے کے ہر قول و فعل کو) دو لکھنے والے لکھتے ہیں، جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہیں۔ [17] وہ کوئی بھی بات نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک نگران مستعد ہوتا ہے۔ [ق: 17-18] تو یہ مستعد نگران انہی فرشتوں میں سے ہوتا ہے۔ لہذا مسلمان کو خیال کرنا چاہیے کہ فرشتے اس کی بری باتیں بھی لکھیں اور کل قیامت کے دن اسے بری بھی لگیں؛ کیونکہ جو بھی لفظ زبان سے نکلے گا یہ فرشتے اسے لکھ لیتے ہیں، پھر قیامت کے دن سب کچھ اسے اپنے سامنے لکھا ہوا اور واضح نظر بھی آئے گا، اور اسے قیامت کے دن کہا جائے گا کہ اپنا نامہ اعمال خود پڑھو تمہارا احتساب کرنے کے لیے تمہاری کتاب ہی کافی ہے،

جیسے کہ فرمان باری تعالیٰ ہے: ﴿وَنُخْرِجُكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يُلْقَاهُ نَشُورًا (13) اقْرَأْ تَابَتْ كَفَىٰ بِفَيْحِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا﴾۔ ترجمہ: ہم قیامت کے دن اس کے لیے کتاب نکالیں گے جسے وہ کھلی ہوئی پائے گا۔ [13] تو اب اپنی کتاب پڑھ، آج تو خود ہی اپنا احتساب کرنے کے لیے کافی ہے۔ [الاسراء: 13-14]

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری پردہ پوشی فرمائے اور ہمیں معاف فرمادے، یقیناً وہی سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا ہے۔

واللہ اعلم

اس بارے میں مزید کے لیے آپ سوال نمبر: (843) کا جواب ملاحظہ کریں۔

مراجع:

1. "أعلام السيرة المنشورة" (86)
2. "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين" (160/3)